

پاکستانی معاشرے میں تاخیر سے شادیوں کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ

Delayed Marriages from Islamic point of view in Pakistani Society

* ڈاکٹر فرہاد اللہ
** ڈاکٹر فضل عمر

Abstract:

Family is the basic unit of human society which forms in the shape of marriage between a couple. Historically, all human civilizations and religions have cared for the union between Man and woman by constituting norms and rules right from the solemnization till the death of any partner of the union. Similarly, the religion of Islam has provided all sort of guidance in this regard keeping in view the natural sensations of humans for cohabitation and making their lives pure as well as chaste. Generally, Islam does not encourage late or delayed marriages rather it incites its followers to marry at appropriate time after adulthood. However, nowadays trend of late and delayed marriages is getting popularity in our Pakistani society which is a point of deliberation for the social scientists and Muslim scholars. The current paper deals with this topic to elaborate its causes and suggests means for tackling in the light of Islamic instructions.

تعارف:

خاندان ایک اہم سماجی ادارہ ہے، اس بنیادی سماجی ادارے کو وجود میں لانے کا ذریعہ "نکاح" ہے۔ یہ نسل انسانی کے سلسلے کو برقرار رکھنے اور آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام نے انسانیت کے لیے نکاح کی صورت میں ایک ایسا اعلیٰ، ارفع اور جامع نظام عفت و عصمت دیا ہے، جس کی روشنی میں ہر بالغ مرد

* اسٹنٹ پروفیسر اسلامیات کواہا یونیورسٹی

** وزٹنگ لیکچرر کے ایم یو انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، کواہا

و عورت جنسی میلان میں بھی فطری اور طبعی اعتدال کے ساتھ اور فواحش و منکرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نسل انسانی کی بقاء و دوام کی آبیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں اس کے بارے میں دو طرح کی انتہائیں پائی جاتی ہیں ایک یہ کہ ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں ایسے جوڑوں کی شادی کی جاتی جو بالکل نابالغ ہوتے ہیں تو دوسری انتہا یہ ہے کہ اتنی تاخیر سے شادیاں کی جاتی ہے کہ بڑھاپے کی عمر پہنچ جاتی ہے، دین اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ لہذا نکاح کے معاملے میں بھی ہمیں اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسلامی خاندانی نظام میں زوجین کے تعلقات کو استوار رکھنے کا ذریعہ نکاح ہے۔

نکاح عربی زبان کا لفظ ہے، جس کی لغوی معنی جمع کرنے کے ہیں لیکن اس لفظ کا اطلاق مجامعت، مباشرت کرنے اور عقد کے معنی پر بھی ہوتا ہے، علامہ ابن حجرؒ لکھتے ہیں: عربی لغت میں نکاح کے معنی ملنے اور ملانے کے ہیں۔ کیونکہ مجامعت اور عقد دونوں ہی میں جمع ہونا اور ملنا پایا جاتا ہے، جبکہ شرعی اصطلاح میں نکاح سے مراد وہ معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں مرد و عورت کے درمیان شرعی اصولوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق جائز اور پیدا ہونے والی اولاد کا نسب شرعاً ثابت ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھائے اور ہر اس پاکیزہ عمل کو انسانیت کے لیے پسند فرمایا جو فطرت کے مطابق ہو، بغیر نکاح کے مجرد زندگی گزارنا دین اسلام میں ایک ناپسندیدہ عمل ہے، ازواجی زندگی گزارنا ہی شریعت کا منشاء ہے۔ اس لیے نکاح انسانی معاشرہ کے بقاء کا ایک بنیادی ستون ہے اور شرعی نقطہ نظر سے اس کو ایک خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے، یہ صرف دو افراد کا ایک سماجی بندھن اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ دو خاندانوں میں باہمی الفت و محبت اور ملاپ کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت آدمؑ سے لے کر آپ ﷺ تک کوئی آسمانی شریعت ایسی نہیں گزری جس میں نکاح کی ترغیب نہ دی گئی ہو۔ نکاح کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نہ صرف نکاح کا ذکر ملتا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کو "مِيثَاقًا غَلِيظًا"^۲ یعنی پختہ عہد یا مضبوط عہد نامہ "قرار دیا ہے۔ نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ بُكُورًا فَقَرَاءَ

بُعَيْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“^۳

"تم سے جو مرد و عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلام لوٹائیوں کا بھی اگر وہ مفلس بھی ہو لگیں تو اللہ تعالیٰ انھیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا اللہ تعالیٰ کثادگی والا علم والا ہے۔"

اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہیں تو ان کے نکاح کر دو اگر تمہیں مفلس ہونے کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و مہربانی سے تمہیں مال و دولت دے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نکاح کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کی مشروعیت پر اجماع نقل کی گئی ہے۔ علامہ ابن قدامہؒ "المغنی" میں لکھتے ہیں: وأجمع المسلمون على ان النكاح مشروع،^۴ اور تمام مسلمانوں کا نکاح کے مشروع ہونے پر اجماع ہے۔ "بلکہ قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں مسلمانوں کو کئی نکاح کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيّ وَثُلُثَ وَرَبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً^۵

"تو جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ (سب عورتوں سے) یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت (کافی ہے)۔"

اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ^۶

"کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نکاح کیا کرو اس لئے کہ تمہاری کثرت پر میں اور امتوں کے سامنے فخر کروں گا۔"

اسی طرح صحیح مسلم میں نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ“ اے نوجوانوں کے گروہ! جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح کرنا نگاہ کو بہت زیادہ نیچا رکھنے والا اور زنا سے محفوظ رکھنے والا ہے۔“

مندرجہ بالا آیات قرآنی آیات و احادیث مبارکہ سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ نکاح کی اہمیت و افادیت پر اسلامی شریعت میں کتنا زور دیا گیا ہے۔

پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے جس کے رہنے والے مشرقی اقدار و روایات کے حامل تصور کئے جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے سے عالمی سطح کی تبدیلیوں، تعلیم، ملازمت اور آگاہی کی وجہ سے شادیوں کی اوسط عمر میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو کہ خاندانی نظام کے لئے اچھا شگون نہیں ہے۔ پاکستان کا شمار جنوبی ایشیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں تاخیر سے شادی کا رواج بڑھ رہا ہے۔^۸ اسی طرح نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پاپولیشن سٹڈیز کے سروے کے مطابق خواتین کی اوسط شادی کی عمر ۱۹۶۱ میں ۱۶ سال تھی جو کہ ۱۹۹۸ میں بڑھ کر ۲۲ سال ہو گئی، اسی طرح مردوں کی شادی کی اوسط عمر ۲۲ سال سے بڑھ کر ۲۶ سال ریکارڈ کی گئی۔^۹ شادی کی عمر میں اس اضافے کے ساتھ بچوں کی پیدائش کی شرح میں بھی کمی آئی ہے۔

ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر ۱۶ سے ۲۰ سال یا زیادہ سے زیادہ ۲۵ سال تک ان کی شادی ہونی چاہیے جبکہ لڑکوں کی شادی ۲۵ سے ۲۸ یا ۳۰ سال تک ہو جانی چاہیے لیکن اگر یہ عمریں نکل جائیں تو یہ "تاخیر کی شادی" کہلائے گی۔ شادی میں تاخیر یوں تو لڑکے اور لڑکی دونوں طرف سے ہو رہی ہے لیکن زیادہ تر مشکلات لڑکیوں کو پیش آتی ہے اس لیے کہ اگر ان کی شادی کی مناسب عمر نکل جائیں تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب شروع شروع میں رشتے آتے ہیں تو لڑکی کے والدین خوب سے خوب تر کی تلاش میں انکاری ہوتے ہیں اور جب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر مایوسی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

موجودہ زمانے میں تاخیر سے شادی کا رجحان بھی نیا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تعلیمی و صنعتی ترقی اور معاشرے میں دوسری تبدیلیوں کی وجہ سے خصوصاً شہری علاقوں میں یہ روش دیکھنے میں آ رہی ہے، لڑکے و لڑکیوں کی زیادہ عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ لوگ تاخیر سے شادیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

اسلامی نقطہ نظر سے تاخیر سے شادی کرنے کے بارے میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں؟ اس مقالے میں ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

شادی کی عمر پاکستانی عائلی قوانین کے مطابق کیا ہے؟

دنیا کی دیگر تہذیبوں کی طرح برصغیر پاک و ہند میں بھی شادی کی کوئی خاص مدت متعین نہیں تھی اور چھوٹی عمر کی شادیوں کا رواج بھی عام تھا۔ تاریخ میں پہلی دفعہ انگریز سرکار نے ۱۹۲۹ء میں بچکانہ شادیوں کی ممانعت کا قانون "Child Marriage Restraint Act" متعارف کروایا جس کی رو سے لڑکیوں کے لئے شادی کی کم از کم عمر ۱۴ سال اور لڑکوں کے لئے کم از کم عمر ۱۸ سال مقرر کی گئی۔ ۱۹۶۱ء میں "مسلم عائلی قوانین آرڈیننس" کا نفاذ کیا گیا جس کی رو سے ۱۹۲۹ء کے قانون میں ترمیم کر کے لڑکی کے لئے شادی کی کم از کم عمر ۱۶ سال کر دی گئی۔ "جہاں تک شادی کی زیادہ سے زیادہ عمر کا تعلق ہے تو اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے اور نہ ہی قانون تاخیر سے شادی کو منع کرتا ہے، اس طرح یہ ایک خالصتاً سماجی اور مذہبی مسئلہ بن کر رہ جاتا ہے۔

تاخیر سے شادی کے وجوہات و اسباب اور اس کے بارے میں اسلامی ہدایات:

اسلام میں تاخیر سے شادی کو مستحسن قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ بلوغت کے بعد کی شادی کو ترجیح دی ہے۔ احادیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح جلد از جلد کرنی چاہئے آپ ﷺ نے حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْمًا" اے علی تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ میں جب حاضر ہو اور بیوہ عورت کے نکاح میں جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے"

اور اسی طرح نیک بخت بیوی کو دنیا کی بہترین متاع کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْءَةُ الصَّالِحَةُ" "دنیا پوری کی پوری مال و متاع ہے اور دنیا کی بہترین اور زیادہ نفع بخش چیز نیک عورت ہے۔

لیکن مذہب سے دوری کی وجہ سے ہمارے ہاں ترجیحات میں تبدیلی آگئی ہے یعنی مغربی تہذیب و تمدن کا رنگ ہمارے اوپر کچھ اس طرح سے غالب آیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارا طرز زندگی تبدیل ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، مغرب کی بہت سی خامیاں ہم نے اپنالی ہیں، یہاں تک کہ شادی جیسا خوبصورت بندھن کو غلط روایات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کے مختلف اسباب ہیں جن میں سے درجہ ذیل زیادہ اہم ہیں:

جہیز:

جہیز سے مراد وہ سامان جو بیٹی کی شادی میں ماں باپ کی طرف سے دیا جائے، اس میں زیورات، ملبوسات، فرنیچر اور آرائشی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جہیز کو شادی کا ایک ناگزیر حصہ قرار دے دیا گیا ہے، اس کے بغیر کسی بھی لڑکی کی شادی کا تصور محال ہو کر رہ گیا ہے۔ جہیز پر پورے گھرانے کے عزت و وقار کا انحصار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ والدین عمر بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے، قرض لے کر یا جائیداد فروخت کر کے کسی نہ کسی طرح جہیز کا انتظام کر دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں ان کی عزت برقرار رہے اور لڑکی کے سسرال میں بھی عزت ہو۔ اسی وجہ سے بہت سی لڑکیاں شادی کی مناسب عمر سے تجاوز کر جانے کے باوجود کنواری بیٹھی رہتی ہیں۔ جبکہ بعض لڑکیاں دن رات محنت و ملازمت کر کے کچھ رقم جمع کر لیتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے جہیز تیار کر سکے اور اپنے شوہر پر مال خرچ کر سکے حالانکہ مردوں کی قومیت کی ایک وجہ قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی ہے کہ شوہر اپنے بیویوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **الرِّجَالُ قَوَمُونَ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ** "مرد عورت پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کئے ہیں۔"

یہاں سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ شوہر بیوی پر مال و دولت خرچ کرتا ہے اور ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے: یا رسول اللہ، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: "تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه" ^{۱۵} "میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھاؤ اور تم جو پہنو تو انہیں بھی پہناؤ اور چہرے پر مت مارو، شرعی اعتبار سے جہیز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اسے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی تحفہ دے، جہیز نہ تو شادی کے لیے کوئی لازمی شرط ہے اور نہ ہی سسرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں، ہمارے ہاں عام طور پر جو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی جہیز دیا تھا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے کفالت میں تھے اور ان کا کوئی علیحدہ گھر نہیں تھا، اس لیے آپ ﷺ نے ان کا گھر بسانے کے لئے کچھ ضروری گھریلو سامان رخصتی کے موقع پر عنایت فرمایا تھا۔ یہ سامان مروجہ جہیز کی قسم سے نہ تھا، دیگر تین صاحبزادیوں کے نکاح کے موقع پر آپ ﷺ نے جہیز نہیں دیا ہے، اسی طرح جہیز کا ثبوت نہ تو ازواج مطہرات میں سے

کسی کے نکاح میں ہے اور نہ ہی اہل عرب میں اس کا رواج تھا۔^{۱۸} جہیز ایک معاشرتی مسئلہ ہے اول تو اسے نمود و نمائش کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور دوسرے لڑکے والے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، زیادہ جہیز کی امیدیں رکھتے ہیں، بعض اوقات تو اس کی کمی کی وجہ سے لڑکی اور اس کے گھر والوں کو مطعون کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان تصورات کی قباحتیں مختلف انداز و اسلوب سے متواتر بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کا کوئی طبقہ ان خرافات کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔

آئیڈیل کی تلاش کا مسئلہ :

نوجوان اپنے تصورات میں ہونے والے شریک حیات کے لئے ایک خاص خاکہ بنا لیتے ہیں اور جب تک انہیں اپنے مطلوبہ تصور کے مطابق جوڑا نہیں ملتا وہ شادی میں تاخیر کرتے رہتے ہیں، آئیڈیل کی تلاش میں اکثر نوجوانوں کی عمریں بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی شادیوں میں تاخیر ہو جاتی ہیں یا ان کی شادی ہی نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن مجید میں نکاح کرنے کا حکم ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ^{۱۹} یعنی تم سے جو مرد و عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو "اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہے :

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ
وَحُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ"^{۱۸}

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین و اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کرو، اگر ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت فساد ہوگا۔"

یعنی اگر تمہارے پاس تمہاری لڑکی کے لئے کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جو تمہیں پسند ہو، ظاہری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، تو اس رشتے کو قبول کر لو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ چنانچہ وہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ گھروں میں لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے بھی موجود ہیں، لیکن آئیڈیل کا انتظار ہے اور اس بات کا انتظار ہے کہ حور پری صورت یا کوئی شہزادہ آجائے تو پھر وہ شادی کے لئے حامی بھر لیں گے، لیکن جن کی ظاہری شکل و صورت اچھی نہیں وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی تو انسان ہیں، ان کے دلوں میں بھی جذبات و خواہشات ہیں، جب وہ خواہشات جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو شیطان ان کو ناجائز طریقے کی طرف لے جائے گا اور اس سے فتنہ و فساد پھیلے گا، موجودہ دور میں ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے روگردانی کے نتیجے میں کیسا فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے۔

برادری میں نکاح:

اسلامی تعلیمات سے غفلت اور ناواقفیت کی وجہ سے اکثر لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں اپنے خود ساختہ خیالات کے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں جن میں سے ایک برادری میں نکاح بھی ہے اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی غلط فہمیوں کے شکار ہیں، یہ درست ہے کہ شریعت نے نکاح کے معاملے میں ایک حد تک "کفو" کی رعایت رکھی ہے، کفو سے مراد "ہمسری، برابری" کی ہیں، عرب "کافہ" کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے برابر ہو، اور نکاح کے باب میں اس سے مراد وہ مخصوص برابری ہے جو دین و مذہب، امانت و دیانت، مال و نسب، آزادی اور پیشہ و تعلیم میں ہمسر ہو،^{۱۹} اس کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کے بعد چونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے اس لئے میاں و بیوی اور دونوں خاندانوں کے درمیان طبعی ہم آہنگی ہو، ان کے طرز فکر، رہن سہن اور ان کے مزاج میں اتنی دوری نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے میں دشواری پیش آئے، لیکن یہ سمجھنا غلط ہے کہ کفو سے باہر نکاح کرنا شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے: *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ*۔^{۲۰} (یاد رکھو) سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کر دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے" اس لئے اگر لڑکی اور اس کے اولیاء کفو سے باہر نکاح کرنے پر راضی ہوں، تو کفو سے باہر کیا ہوا نکاح بھی شرعاً منعقد ہو جاتا ہے، اس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی حرج ہے، برادری میں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی کی شادی میں تاخیر کرنا یا عمر بھر بغیر شادی کے بٹھائے رکھنا کسی طرح جائز نہیں ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے نکاح کی جائے جو شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی ہو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا: *إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَتَهَابُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَابُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَتَهَابُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ*^{۲۱} "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ کو ایک حسب و نسب والی خاتون ملی ہے لیکن وہ عورت بانجھ ہے (یعنی اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے) کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شادی کرنے کو منع فرما دیا پھر دوسرا شخص حاضر ہوا تو اس کو بھی منع فرما دیا پھر تیسرا آدمی حاضر ہوا تو اس کو بھی منع فرما دیا اور فرمایا کہ تم ایسی خواتین سے نکاح کرو کہ جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور مرد (یعنی شوہر

(سے) محبت کرنے والی ہوں اس لئے کہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ (یعنی قیامت کے دن امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اضافہ پر فخر کروں گا)۔

کفو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاص اپنی برادری ہی میں رشتہ کیا جائے، اور برادری کے باہر سے جو بھی رشتے آئیں انہیں غیر کفو قرار دیا جائے۔ کفو میں ہونے کے لئے اپنی برادری کا فرد ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کسی اور برادری کا ہے لیکن لڑکی اور اس کے خاندان کا ہم پلہ ہے تو وہ بھی اس کا کفو ہے اور یہ بات بھی شرعاً درست نہیں ہے کہ "سید" لڑکی کا نکاح غیر سید گھرانے میں نہیں ہو سکتا، بلاشبہ "سید" خاندان سے نسبی وابستگی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس خاندان کی کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح باہر نہیں ہو سکتا قریشی نسب کے لوگ بھی شرعی اعتبار سے سادات کے کفو ہیں، ان کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ قریش سے باہر کے خاندانوں میں بھی باہمی رضامندی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔

غربت کا مسئلہ:

تاخیر سے شادی کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ غربت کا بھی ہے کہ لڑکے کا تعلق کسی غریب یا متوسط گھرانے سے ہوتا ہے اور وہ اپنی شادی کے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتا، اس لئے نکاح کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، جبکہ شریعت نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس میں معمولی پیسے کا خرچ بھی نہیں ہے، کسی تقریب یا دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ مسجد جانا اور کسی سے نکاح پڑھوانا بھی شرط نہیں ہے۔ بلکہ نکاح ایجاب و قبول کے ذریعہ منعقد ہوتا ہے کہ میاں بیوی اور دو گواہ ایک مجلس کے اندر موجود ہوں، اس مجلس میں دو گواہوں کے سامنے مرد یہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنا نکاح کر لیا اور اس کے جواب میں عورت یہ کہے کہ میں منظور کرتی ہوں یا جیسے عورت یوں کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہاری زوجیت میں دے دیا، یا عورت کا ولی، مرد سے یہ کہے کہ میں نے فلاں عورت کا جس کا نام یہ ہے، تمہارے ساتھ نکاح کیا اور اس کے جواب میں مرد یہ کہے کہ میں نے منظور کیا، بس نکاح ہو گیا، البتہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے لیکن نکاح کے لئے اسلام میں نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے نہ مسجد میں جانا شرط ہے اور نہ ہی کسی مولوی یا قاضی سے نکاح پڑھوانا شرط ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے جس میں تین اشخاص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر ان کا حق ہے ان میں سے ایک وہ

غریب شخص بھی ہے جس نے عفت محفوظ رکھنے کے ارادے سے نکاح کیا: والناکح الذی یرید العفاف^{۲۲} "وہ شخص جو حرام کاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا ہو۔"

آج ہم نے نکاح کو ایک عذاب بنا لیا ہے، کوئی شخص اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس لاکھوں روپے موجود نہ ہوں، کیونکہ نکاح سے پہلے منگنی کی جاتی ہے اس رسم کے لئے پیسے چاہئے، مہندی کی رسم کے لئے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور شادی کے لئے اتنا زیور اور اتنے کپڑے چاہئے، ہم مسلمانوں نے اس میں طرح طرح کے خرافات داخل کر کے کس قدر مشکل بنا دیا ہے۔ شادی کی خوشی کے خاطر حقوق اللہ کی پامالی کی جاتی ہے، محض جھوٹی شان دکھلانے کے لئے کس قدر بے خونی کے ساتھ اسراف اور فضول خرچی کا ارتکاب کیا جاتا ہے حالانکہ قرآن مجید میں اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا^{۲۳} "کہ بے جا خرچ کرنے والے

یقینی طور پر شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے،"

اس طرح نکاح کرنے میں فضول رسم و رواج نے کافی مشکلات پیدا کر دی ہیں، جس نے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا ہے جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں بلکہ حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة^{۲۴} "بلاشبہ بہت زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو محنت کے لحاظ سے آسان ہو" کہ جس نکاح میں جتنی سادگی ہوگی اسی قدر اس نکاح میں خیر و برکت ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں ایک دن آپ ﷺ سے اس کی ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پر زعفران کا نشان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، نکاح کے وقت خوشبو لگائی تھی، یہ اس خوشبو کا نشان ہے۔^{۲۵} یہ سابقین اولین صحابہ میں سے ہیں لیکن اس نے نکاح کر لیا اور حضور ﷺ کو اس تقریب میں بلایا تک نہیں، آپ ﷺ نے بھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی بلکہ برکت کی دعا کی۔

نکاح و شادی کے بارے میں اسلام کا مزاج سادگی کا ہے۔ آج ہم نے غیر مسلموں اور ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اپنے شادی میں اتنی رسمیں و رواج بڑھالی ہیں کہ نکاح ایک عذاب بن کر رہ گیا ہے اس وجہ سے ایک عام آدمی کے لئے نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور اکثر شادیوں میں تاخیر اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں، لیکن شریعت نے نکاح کرنے کو آسان کر دیا ہے۔

شکل و صورت کا مسئلہ:

مردوں کی عام ذہنیت ہے کہ وہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں خواہ وہ خود شکل و صورت کے اعتبار سے جیسے بھی ہوں، اس سلسلے میں ان کا معیار کافی بلند ہوتا ہے، اسی وجہ لڑکیوں کا خوبصورت ہونا یا نہ ہونا بھی ان کی شادیوں میں تاخیر کا ایک اہم سبب ہے حالانکہ خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اور چار چیزوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - ۲۱ "یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا" احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اس کی جبلت و فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا اور اس کی جسمانی بنیت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا۔ اسی وجہ انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین قرار دیا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"نُنَكِّحُ النِّسَاءَ لِأَزْوَاجٍ لِمَاهُنَّ وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهُنَّ وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ" ۲۴

"عام طور پر عورت سے نکاح چار وجوہ سے کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے حسب کی وجہ سے حسن کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے پس تو دیندار عورت کو ترجیح دے (اگر تو نے دین کو ترجیح نہ دی تو) تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔"

ہمارے یہاں لڑکے والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی ہونے والی بہو حور پری اور خوبصورت و پرکشش ہو، جس مرد کی شادی ہو رہی ہوتی ہے صرف اس کے گھر والوں کی ہی نہیں بلکہ خود مرد کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ دلہن بہت خوب صورت ہے یا یہ کہ بڑا اچھا انتخاب ہے اور لوگ خوش قسمت سمجھیں گے وغیرہ جبکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَّةِ حَزْمًا سَوْدَاءَ دَاثِ دِينَ أَفْضَلُ - ۲۸

"عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو ہو سکتا ہے کہ ان کی خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے اور نہ ان سے ان کے اموال کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو مال سرکش بنادیں گے البتہ دینداری کی بنیاد پر شادی کرو اور یقیناً کان میں سوراخ والی کالی باندی جو دیندار ہو بہتر ہے۔"

پہلے زمانے میں شادی کے لئے خوبصورتی سے زیادہ سیرت و اخلاق و کردار اور خاندانی شرافت کو دیکھا جاتا تھا لیکن آج کل ان اقدار کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے اور دولت، مرتبہ، زور و قوت اور شکل و صورت کو ترجیح دی جاتی ہے۔

خلاصۃ البحث:

خاندان انسانی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور زمانہ قدیم سے دنیا کی ہر تہذیب و تمدن میں موجود ہے۔ خاندان کے وجود کا ذریعہ نکاح ہے جو مختلف خاندانوں میں مضبوط رشتہ قائم رکھتی ہے۔ شادی اگر مناسب عمر میں کی جائے تو بہت سے مسائل سے بچا جاسکتا ہے۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں تاخیر سے شادی کرنے کا رواج بڑھ رہا ہے جس کی بہت سی وجوہات ہیں مثلاً غربت، لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم، بیروزگاری اور جہیز وغیرہ۔ تاخیر سے کی جانے والی شادیوں کی وجہ سے خاندانی نظام کو شدید خطرات درپیش ہیں اور شرح پیدائش میں بھی کمی آرہی ہے۔ تاخیر سے شادی کی وجہ سے لڑکیاں خصوصی طور پر متاثر ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں اور مختلف قسم کی جسمانی و نفسیاتی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتی ہیں خصوصاً ان کی تولیدی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس صورت حال کا حل یہ ہے کہ معاشرہ کے بااثر لوگ اپنی شادیوں کی تقریبات میں سادگی اختیار کریں اور غیر اسلامی رسموں کو یکسر چھوڑ دیں۔ علماء اور ماہرین سماجیات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صورت حال کا ادراک کریں اور خاندانی نظام کو کمزور ہونے سے بچائیں۔

حواشی و حوالہ جات:

^۱: بشامی، علامہ محمد امین، حاشیہ ابن عابدین، بیروت، دار الفکر، ۱۴۲۱ھ، ج ۳، ص ۳

^۲: القرآن، سورۃ نساء، آیت ۲۱

^۳: القرآن، سورۃ النور، آیت ۳۲

^۴: ابن قدامہ، ابو محمد عبداللہ بن احمد المقدسی، المغنی، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۵ھ، ج ۷، ص ۴

^۵: القرآن، سورۃ نساء، آیت ۳

^۶: ابن ماجہ، ابو عبداللہ محمد بن یزید القزوی، سنن ابن ماجہ، بیروت، دار الفکر، حدیث نمبر ۱۸۴۶

^۷: صحیح مسلم، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، حدیث نمبر ۱۴۰۰

^۸: سلیم، حنا، دی ایکسپلورر اسلام آباد، جرنل آف سوشل سائنسز، والیوم، ایٹو، آئی ایس این ۵۴۸-۲۴۱۱

۹۔ پاکستان فرٹیلیٹی اینڈ فیملی پلاننگ سروے ۱۹۹۷-۱۹۹۶، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پاپولیشن سٹڈیز، اسلام آباد۔

۱۰۔ فارانی (۲۰۱۱ء)، فیملی لازان پاکستان، ندیم لاء بک ہاؤس، لاہور، صفحہ ۱۱۸

۱۱۔ ایضاً، صفحہ ۱۷

۱۲۔ ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، سنن ترمذی، دار احیاء التراث، بیروت، حدیث نمبر ۱۷۱

۱۳۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر ۱۴۶۷

۱۴۔ القرآن، سورۃ نساء، آیت ۳۴

۱۵۔ شیبانی، ابو عبد اللہ احمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، موسسۃ قرطبۃ، القاہرہ حدیث نمبر ۲۰۰۱

۱۶۔ نعمانی، مولانا محمد منظور، معارف الحدیث، دار الاشاعت، کراچی، ۲۰۰۱ء، ج ۸، ص ۳۹۹

۱۷۔ القرآن، سورۃ النور، آیت ۳۲

۱۸۔ جامع ترمذی، ج ۱، حدیث نمبر ۱۰۸۴

۱۹۔ حصکفی، علامہ علاء الدین، در مختار، بیروت، دار الفکر، ۱۳۹۵ھ، ج ۳، ص ۳

۲۰۔ القرآن، سورۃ الحجرات، آیت ۱۰

۲۱۔ نسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن علی، السنن النسائی، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب ۱۴۰۶ھ، حدیث نمبر ۳۲۲

۲۲۔ سنن نسائی حدیث نمبر ۳۲۱۸/جامع ترمذی حدیث نمبر ۱۶۵۵

۲۳۔ القرآن، سورۃ الاسراء، آیت ۲۷

۲۴۔ مسند احمد بن حنبل، حدیث نمبر ۲۴۵۲

۲۵۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر ۱۴۲۷

۲۶۔ القرآن، سورۃ التین، آیت ۴

۲۷۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر ۱۴۶۶/سنن ترمذی، حدیث ۱۰۸۶

۲۸۔ سنن ابن ماجہ، ج ۲، حدیث نمبر ۱۸۵۹